HEMAYAH TAKAFUL
ACCELERATED SAVINGS PLAN

Invest More Today, Achieve More Tomorrow

Life's biggest dreams deserve an early start.

Whether you're planning for your child's education, building long-term wealth, preparing for retirement, or securing your family's future, your financial journey begins with the decisions you make today.

Hemayah Takaful Accelerated Savings Plan gives your investment a head start by allowing your planned future contributions to be funded upfront, helping your money work harder from day one while providing valuable coverage and protection.
Start Earlier. Grow Faster. Live Confidently.

Plan Objective

It is a Shariah Compliant, Waqf based and investment-linked coverage product. The contributions of the plan will be utilized to purchase units for the funds selected by the participant (covered person), who will have the facility to select from the Unit Savings Funds based on his/her risk appetite and investment objectives at the inception of the membership.

Important Details

Variant	Variant A	Variant B
Eligible age	18 - 65 years	18 - 65 years
Contribution Payment Term	5 Years	10 Years
Coverage Term	10 Years	10-25 Years
Minimum Annual Contribution	PKR. 40,000	PKR. 35,000
Lump Sum Payment	5 Times Annual Contribution	10 Times Annual Contribution

Disclosure of Product

This is a Family takaful product which has two distinct elements i.e., Protection and Investment. The Investment Component is linked to the performance of underlying assets under unit linked fund(s).

Free Look Period

If you decide to cancel your membership within fourteen days of receiving the membership document, you are entitled for a full refund of Contribution as a benefit less any expenses incurred by EFU Life - WTO in connection with our medical or clinical examinations.

What is Takaful?

Takaful is a Shariah compliant way of safeguarding yourself and your family against future financial losses. Individuals in the community come together for a common purpose and contribute into a Waqf Fund operated by a Takaful Operator to protect themselves against future financial losses. A Family Takaful Plan assists participants to share their risk on the basis of cooperation, brotherhood, mutuality and solidarity for a common good.

How does the Takaful Membership Operate?

Hemayah Takaful Accelerated Savings Plan can be easily customized to suit your specific needs. You can decide on the level of takaful protection and investment which is in line with your long term financial planning goals.

The following pictorial representation summarizes how your Takaful membership will operate with EFU Life:



Surplus Sharing

Takaful offers a unique feature of Surplus Sharing to the Participants in addition to risk mitigation benefits. By contributing Tabarru (donation) into the Participants' Takaful Fund (PTF), the participant may be entitled to a share of possible surplus funds. At the end of each year, EFU Life will determine the surplus in the PTF based on the method approved by the Shariah Advisor and Appointed Actuary.

A part of the surplus may be distributed back to the participant in the form of Bonus Units through additional unit allocation in the Participant's Investment Account (PIA). These Bonus Units will enhance the Cash Value of your Takaful plan.

Opportunities for Growth

Shariah Compliant Investments

That's why EFU Life - WTO offers professionally managed investment funds catering to different levels of investment risk.

Funds

EFU Takaful Conservative Fund	EFU Takaful Growth Fund	EFU Takaful Aggressive Fund
Fund Categorization: Income Fund	**Fund Categorization: Balanced Fund**	**Fund Categorization: Aggressive Fund**
Risk Profile: Low	**Risk Profile: Medium**	**Risk Profile: High**
unit-linked Participants' Investment Fund (PIF) comprising Shariah compliant government securities, non-equity Shariah compliant mutual funds, Shariah-compliant short-term deposits, and cash in Islamic banks or Islamic windows of conventional banks. The fund aims to provide stable investment returns with minimal risk and is suitable in times of the volatile stock market.	A unit-linked Participants' Investment Fund (PIF) comprising Shariah Compliant investments. The objective of the fund is to maximize capital growth by investing in a portfolio spread across a wide range of investments such as Islamic mutual funds, approved equities, term deposits in Islamic Banks, and Sukuk Bonds.	A unit-linked Participants' Investment Fund (PIF) comprising Shariah-Compliant investments, aimed at maximizing capital growth by using investments with an aggressive market outlook

Multiple Fund Option

Under this option you have a facility to select a mix of two unit linked funds of the plan. Total contribution under your membership will be allowed to be distributed in funds in multiples of 10%. It means that the funds split can be of 90/10, 80/20, 70/30, 60/40 or 50/50.

*EFU Takaful Conservative Fund to be selected by default.

Why Hemayah Takaful Accelerated Savings Plan?

Accelerated Savings: Give your investments more time to potentially grow with an innovative advance contribution feature.

Financial Protection: Protect your loved ones with valuable life coverage throughout the membership term.

Investment Flexibility: Choose investment strategies that match your financial objectives and risk appetite.

Long-Term Wealth Creation: Designed to help you achieve meaningful financial goals with disciplined investing.

Flexibility: Access your accumulated savings whenever life requires it, subject to membership terms.

Optional Protection: Enhance your coverage with benefits designed around your family's changing needs.

Built-in Benefits

Takaful Accidental Death and Disability Benefit
Your plan includes a built-in protection benefit against accidental death or disability before age 60 in addition to the Natural Death Benefit, offering enhanced financial security without requiring a separate rider selection.

Optional Benefits

1.Takaful Accidental Death Benefit*
Additional protection against accidental death

2.Takaful Accidental Death & Disability Benefit Plus*
Enhanced financial protection against accidental death and disability

3.Additional Term Takaful
Increase your life coverage

4.Takaful Family Income Benefit
Monthly financial support for your loved ones

5.Takaful Life Care Enhanced Benefit
Additional support during serious health conditions

**Any one of the above-mentioned accidental death benefits can be selected*

Speak to your Financial Advisor to understand which protection options are best suited to your needs.

Your Biggest Advantage

Lump Sum Contribution Payment
Give Your Investment a Head Start
Unlike traditional savings plans, where investments are made gradually over time, the **Lump Sum Contribution** feature allows your planned future contributions to be funded upfront and invested from the beginning. This means your money gets more time to benefit from long-term growth opportunities.

Why Customers Prefer It?

- Investment begins immediately
- More time for wealth accumulation
- Simplified financial planning
- No annual contribution payment hassle
- Automatic allocation throughout the contribution payment term

Want to Grow Even Faster?

You can further strengthen your investment by making additional top-up investments whenever surplus funds become available.

Important Product Information

Cash Value

Basic Cash Value

- Bid Price × Units allocated from the Regular Basic Plan Contribution

Total Cash Value

- Bid Price × Total Units allocated from the Regular Basic Plan Contribution and Total Fund Acceleration Contribution

Death Benefit

In the unfortunate event of death during the membership term, the membership benefit payable shall comprise:

- Sum Covered
- Plus, Basic Cash Value
- Plus, Cash Value accumulated through Subsequent Fund Acceleration Contributions

Maturity Benefit

Upon membership maturity, the Total Cash Value accumulated under the membership shall become payable.

Unit Allocation

Membership Years	Variant A	Variant B
Year 1	45%	45%
Year 2	75%	75%
Year 3	90%	90%
Year 4	100%	100%
Year 5	105%	105%
Year 6 & onwards	-	110%

100% of Subsequent Fund Acceleration Contributions paid will be allocated

Sum Covered

The Sum Covered is determined as the Basic Plan Contribution times the "Cover Multiple" based on the age at entry of the Participant.

Years	Multiple
18 – 35	5 to 35
36 – 40	5 to 25
41 – 49	5 to 15
50 – 60	5 to 10
61 – 65	5

Flexibility When You Need It

Life changes - and your financial plan should be able to adapt.

Partial Withdrawal

Access part of your accumulated savings when required, subject to membership terms.

Full Withdrawal

The membership also offers the flexibility of full withdrawal, should your financial circumstances change.
(Applicable terms and charges apply.)

Non-Forfeiture Options

Two options available

- Paid up: Administration charge of Rs 2,400 to be deducted annually in the form of unit de-allocation. No contribution is payable once the membership is converted to paid up
- ANF

Charges

Charges	Rate/PKR
Administration Charge	PKR 2,400 per annum. The administration indexation charge is indexed at a rate of 8% each year.
Bid/Offer Spread	5% of the net basic plan contribution & FAC payment.
Investment Management Charge	0.125% of the fund value per month
Mortality Charge	An age-based mortality charge applies for the life coverage risk each year and is dependent on the sum at risk. No mortality charges apply in years where the cash value exceeds sum covered.
Withdrawal Charge	Additional Wakalat-ul-Istismar fee equal to 50% of the allocated portion of first year contribution will be deducted from the Total Cash value of the membership.
Wakalah Charge	50% of the Takaful donation

DISCLAIMER:

- This brochure gives a general outline of 'Hemayah Takaful Accelerated Savings Plan'.

- A description of how the contract works is given in the membership Provisions and Conditions.

- The growth in fund value will depend on the actual fund performance.

- Please note that Unit Linked Life Insurance plans are subject to investment risk and the Investment risk of the selected fund will be borne by the participant.

- Please contact our Head Office or Takaful Consultant for a personalized illustration of benefits.

MUFTI MUHAMMAD IBRAHIM ESSA
Graduate from Jamiah Darul Uloom Karachi, Pakistan
Shariah Advisor – Islamic Finance and Takaful/Retakaful

المفتی ابراہیم عیسیٰ
خریج الجامعة دارالعلوم کراتشی
المشیر الشرعی للامورالمالیة الاسلامیة

بسم اللہ الرحمن الرحیم

SHARIAH COMPLIANCE CERTIFICATE

SHARIAH COMPLIANCE CERTIFICATE
UNDER RULE 26(1)(e) OF TAKAFUL RULES, 2012
FOR EFU LIFE ASSURANCE LTD – WINDOW TAKAFUL OPERATIONS

In the capacity of Shariah Advisor- EFU Life Assurance Limited – Window Takaful Operations, I certify that I have reviewed the structure of EFU Hemayah Takaful Accelerated Savings Plan which is based on the Wakalah-Waqf takaful model. I have also examined all relevant processes and documents including the Participants Membership Document.

Based on Shariah rulings and to the best of my knowledge and belief, the EFU Hemayah Takaful Accelerated Savings Plan distributed through Salesforce and Dedicated Salesforce – Window Takaful Operations, investment policy of the Takaful fund, relevant documents and processes are all Shariah compliant.

In my opinion, it is permissible from the Shariah point of view to obtain membership in this plan and benefit from it.

Dated: 07 August, 2026

Muhammad Ibrahim Essa
Shariah Advisor
EFU Life Assurance Limited Window Takaful Operations

Email: mibrahimesa@yahoo.com
Phone: +92.322.2671867

EFU LIFE ASSURANCE LTD.

EFU Life House, Plot No. 112, 8th East Street, Phase I, DHA, Karachi, Pakistan
Fax: (021) 3453-7519 Email: csd@efulife.com

Registered Office: Al-Malik Centre 70 W, F-7/G-7 Jinnah Avenue,
(Blue Area) Islamabad, Phone: 051 - 2820989

HEMAYAH
EFU FAMILY TAKAFUL

حمایہ تکافل ایکسلریٹڈ سیونگز پلان

آج زیادہ سرمایہ کاری کریں، کل زیادہ کامیابیاں حاصل کریں۔

زندگی کے بڑھتے ہوئے خواب بروقت منصوبہ بندی کے متقاضی ہوتے ہیں۔

چاہے آپ اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے بچت کرنا چاہتے ہوں، طویل مدت کے لیے دولت بنانا چاہتے ہوں، ریٹائرمنٹ کی منصوبہ بندی کر رہے ہوں، یا اپنے خاندان کا مالی مستقبل محفوظ بنانا چاہتے ہوں، آپ کے روشن مستقبل کا آغاز آج کیے گئے درست فیصلوں سے ہوتا ہے۔

حمایہ تکافل ایکسلریٹڈ سیونگز پلان آپ کی سرمایہ کاری کو ایک مضبوط آغاز فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ آپ کی مستقبل کی منصوبہ بندی کو پہلے ہی سے فعال کر دیتا ہے، جس سے آپ کی سرمایہ کاری پہلے دن سے زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے، جبکہ آپ اور آپ کے خاندان کو زندگی کا مالی تحفظ بھی حاصل رہتا ہے۔

جلد آغاز کریں، بہتر نتائج کریں، اور اپنے کل کو آج ہی محفوظ بنائیں۔

منصوبے کا مقصد

یہ ایک شریعہ سے ہم آہنگ، وقف پر مبنی اور سرمایہ کاری سے منسلک تحفظاتی منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کے تحت ادا کی جانے والی کنٹری بیوشنز منتخب فنڈز میں یونٹس خریدنے کے لیے استعمال کی جائیں گی۔ شریکِ تکافل (تحفظ یافتہ فرد) اپنی خطرات برداشت کرنے کی صلاحیت اور سرمایہ کاری کے اہداف کے مطابق، رکنیت کے آغاز پر دستیاب یونٹ سیونگز فنڈز میں سے مناسب فنڈ کا انتخاب کر سکتا/سکتی ہے۔

اہم تفصیلات

ویریئنٹ	ویریئنٹ اے	ویریئنٹ بی
اہلیت کی عمر	18 سے 65 سال	18 سے 65 سال
کنٹری بیوشن کی ادائیگی کی مدت	5 سال	10 سال
تحفظ کی مدت	10 سال	10 سے 25 سال
کم از کم سالانہ کنٹری بیوشن	40,000 پاکستانی روپے	35,000 پاکستانی روپے
یکمشت ادائیگی	سالانہ کنٹری بیوشن کا 5 گنا	سالانہ کنٹری بیوشن کا 10 گنا

پروڈکٹ کا اظہار

یہ ایک فیملی تکافل منصوبہ ہے جس کے دو اہم اجزاء ہیں، یعنی تحفظ اور سرمایہ کاری۔ اس منصوبے کا سرمایہ کاری کا حصہ یونٹ لنکڈ فنڈز کے تحت موجود بنیادی اثاثوں کی کارکردگی سے منسلک ہے۔

غور و فکر کا دورانیہ

اگر آپ رکنیت کی دستاویز موصول ہونے کے چودہ دن کے اندر اپنی رکنیت منسوخ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو آپ اپنی کنٹری بیوشن کی مکمل واپسی کے حقدار ہوں گے، البتہ ای ایف یو لائف ونڈو تکافل آپریشنز کی جانب سے طبی یا کلینیکل معائنے کے سلسلے میں کیے گئے اخراجات اس رقم سے منہا کیے جائیں گے۔

تکافل کیا ہے؟

تکافل شریعت کے مطابق اپنے اور اپنے اہلِ خانہ کو مستقبل میں پیش آنے والے مالی نقصانات سے تحفظ فراہم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس نظام کے تحت افراد ایک مشترکہ مقصد کے لیے باہمی تعاون کی بنیاد پر ایک وقف فنڈ میں اپنا حصہ جمع کرواتے ہیں، جسے تکافل منتظم کے ذریعے چلایا جاتا ہے، تاکہ ضرورت کے وقت مستقبل میں پیش آنے والے مالی نقصانات کا ازالہ کیا جا سکے۔

خاندانی تکافل منصوبہ شرکاء کو باہمی تعاون، اخوت، اشتراک اور یکجہتی کے اصولوں کے تحت خطرات کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنے کا موقع فراہم کرتا ہے، تاکہ سب کی مشترکہ بھلائی کو یقینی بنایا جا سکے۔

تکافل رکنیت کیسے کام کرتی ہے؟

حمایہ تکافل ایکسلریٹڈ سیونگز پلان کو آپ کی انفرادی ضروریات کے مطابق آسانی سے ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنی طویل مدتی مالی منصوبہ بندی کے اہداف کو مدِنظر رکھتے ہوئے تکافل تحفظ اور سرمایہ کاری کی وہ سطح منتخب کر سکتے ہیں جو آپ کی ضروریات سے ہم آہنگ ہو۔ ذیل میں دی گئی تصویری وضاحت اس بات کا خلاصہ پیش کرتی ہے کہ ای ایف یو لائف کے ساتھ آپ کی تکافل رکنیت کس طرح کام کرتی ہے۔



سرپلس شیئرنگ

تکافل، خطرات سے تحفظ کی سہولت کے ساتھ شرکاء کو سرپلس شیئرنگ کی منفرد خصوصیت بھی فراہم کرتا ہے۔ تبرع (عطیہ) کی صورت میں شرکاء تکافل فنڈ (پی ٹی ایف) میں حصہ ڈالنے پر، شرکاء ممکنہ سرپلس فنڈ میں اپنے حصے کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ ہر سال کے اختتام پر، ای ایف یو لائف شریعہ مشیر اور مقررہ ایکچوری کی منظور شدہ طریق کار کے مطابق شرکاء تکافل فنڈ (پی ٹی ایف) میں موجود سرپلس کا تعین کرتی ہے۔ اس سرپلس کا ایک حصہ بونس یونٹس کی صورت میں شرکاء کے پارٹیسپنٹس انویسٹمنٹ اکاؤنٹ (پی آئی اے) میں اضافی یونٹس مختص کر کے دیا جا سکتا ہے۔ یہ بونس یونٹس آپ کے تکافل پلان کی کیش ویلیو میں اضافہ کرتے ہیں۔

شریعت کے مطابق سرمایہ کاری

فنڈز

ای ایف یو تکافل کنزرویٹو فنڈ*	ای ایف یو تکافل گروتھ فنڈ	ای ایف یو تکافل ایگریسو فنڈ
فنڈ کی قسم: انکم فنڈ	**فنڈ کی قسم: متوازن**	**فنڈ کی قسم: ایگریسو**
رسک پروفائل: کم	**رسک پروفائل: درمیانی**	**رسک پروفائل: زیادہ**
ای ایف یو تکافل کنزرویٹو فنڈ سرمایہ کاری کی تخصیص کی ایک محتاط حکمت عملی رکھتا ہے اور اس میں کم خطرہ شامل ہوتا ہے۔ یہ شریعت کے مطابق حکومتی سیکیورٹیز، شریعت کے مطابق غیر ایکوٹی میوچل فنڈز، شریعت کے مطابق قلیل المدت ڈپازٹس، اسلامی بینکوں میں یا مروجہ بینکوں کی اسلامک ونڈوز میں دی جانے والی حدمات میں نقد پر مشتمل یونٹ سے منسلک شرک تکافل سرمایہ کاری فنڈ (پی آئی ایف) ہے۔	یہ یونٹ سے منسلک ایک شرکاء تکافل سرمایہ فنڈ (پی آئی ایف) ہے جو شریعت کے مطابق سرمایہ کاریوں پر مشتمل ہے۔ فنڈ کا مقصد ایک پورٹ فولیو کے پھیلاؤ میں سرمایہ کاریوں کی ایک وسیع رینج میں جیسے کہ اسلامک میوچل فنڈز، منظور شدہ مالی ایکوٹیز، اسلامی بینکوں میں ٹرم ڈپازٹ اور صکوک بانڈز جیسی اسکیموں میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر کے حاصل شدہ سرمائے کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا ہے۔	یہ یونٹ سے منسلک شرکاء تکافل سرمایہ کاری فنڈ (پی آئی ایف) ہے جو شریعت کے مطابق سرمایہ کاری پر مشتمل ہے۔ اس کا مقصد مارکیٹ کی متوقع تیزی کو مدنظر رکھتے ہوئے سرمائے کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا ہے۔

متعدد فنڈز کا انتخاب

اس سہولت کے تحت آپ اس منصوبے کے دو یونٹ لنکڈ فنڈز کا امتزاج منتخب کر سکتے ہیں۔ آپ کی ادا کردہ شراکت کو 10 فیصد کے وقفوں سے دو فنڈز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، مثلاً 90/10، 80/20، 70/30، 60/40، 50/50 ۔

ای ایف یو تکافل کنزرویٹو فنڈ بطورِ خود منتخب ہوگا۔

حمایہ تکافل ایکسلریٹڈ سیونگز پلان کیوں منتخب کریں؟

تیز رفتار بچت:

جدید پیشگی کنٹری بیوشنز کی سہولت کے ذریعے آپ کی سرمایہ کاری کو زیادہ عرصے تک بڑھنے اور بہتر منافع حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔

مالی تحفظ:

تکافل رکنیت کی پوری مدت کے دوران اپنے پیاروں کو قیمتی زندگی کے بیمے کی سہولت کے ذریعے مالی تحفظ فراہم کریں۔

سرمایہ کاری میں سہولت:

اپنے مالی اہداف اور سرمایہ کاری کے خدشات کے مطابق سرمایہ کاری کی حکمتِ عملی منتخب کریں۔

طویل مدتی دولت کی تشکیل:

منظّم سرمایہ کاری کے ذریعے آپ کو اپنے اہم مالی اہداف حاصل کرنے میں مدد فراہم کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔

آزادیِ انتخاب:

ضرورت کے وقت، رکنیت کی شرائط وضوابط کے مطابق، اپنی جمع شدہ سرمایہ کاری تک رسائی حاصل کریں۔

اضافی تحفظ:

اپنے خاندان کی بدلتی ہوئی ضروریات کے مطابق تیار کردہ اضافی حفاظتی سہولیات کے ذریعے اپنی تحفظ کوریج میں مزید اضافہ کریں۔

شامل شدہ فائدہ

تکافل حادثاتی وفات اور معذوری کا فائدہ

آپ کے منصوبے میں ۶۰ سال کی عمر سے پہلے حادثاتی وفات یا معذوری کی صورت میں، قدرتی وفات کے فائدے کے علاوہ، اضافی مالی تحفظ شامل ہے۔
اس سہولت کے لیے کسی علیحدہ اضافی تحفظ (فائدہ) کے انتخاب کی ضرورت نہیں، جس سے آپ اور آپ کے اہلِ خانہ کو مزید مالی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔

اختیاری فوائد

تکافل حادثاتی وفات کا فائدہ*

حادثاتی وفات کی صورت میں اضافی مالی تحفظ۔

تکافل حادثاتی وفات اور معذوری کا فائدہ پلس*

حادثاتی وفات اور معذوری کی صورت میں مزید جامع مالی تحفظ۔

اضافی ٹرم تکافل

اپنی تحفظ کوریج میں اضافہ کریں۔

تکافل خاندانی آمدنی کا فائدہ

آپ کے انتقال کے بعد آپ کے اہلِ خانہ کے لیے ماہانہ مالی معاونت۔

تکافل لائف کیئر اضافی تحفظ

سنگین صحت کی صورتحال میں اضافی مالی معاونت فراہم کرتا ہے۔

* **مندرجہ بالا حادثاتی وفات کے فوائد میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جاسکتا ہے۔**

اپنے مالی مشیر سے رابطہ کریں تا کہ وہ آپ کی ضروریات کے مطابق مناسب حفاظتی سہولیات کے انتخاب میں آپ کی رہنمائی کرسکیں۔

آپ کا سب سے بڑا فائدہ

یکمشت شراکت کی ادائیگی

اپنی سرمایہ کاری کو بہتر آغاز دیں

روایتی سیونگز پلانز میں سرمایہ کاری وقت کے ساتھ مرحلہ وار کی جاتی ہے، جبکہ ایڈوانس کنٹریبیوشن فیچر کے ذریعے آپ کے آئندہ متوقع کنٹریبیوشن پہلے ہی فنڈ کر کے آغاز ہی سے سرمایہ کاری کر دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سرمایہ کاری کو زیادہ عرصے تک ترقی کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کا امکان حاصل ہوتا ہے۔

صارفین اسے کیوں پسند کرتے ہیں؟

- سرمایہ کاری کا آغاز فوری طور پر ہوتا ہے۔
- دولت میں اضافے کے لیے زیادہ وقت میسر ہوتا ہے۔
- مالی منصوبہ بندی آسان ہو جاتی ہے۔
- ہر سال کنٹریبیوشن ادا کرنے کی پریشانی نہیں رہتی۔
- کنٹریبیوشن ادائیگی کی مدت کے دوران سرمایہ کاری خودکار طور پر مختص ہوتی رہتی ہے۔

مزید تیزی سے سرمایہ کاری بڑھانا چاہتے ہیں؟

جب بھی آپ کے پاس اضافی رقوم دستیاب ہوں، آپ ٹاپ اَپ سرمایہ کاری کے ذریعے اپنی سرمایہ کاری کو مزید مضبوط بنا سکتے ہیں۔

اہم معلومات

کیش ویلیو

بنیادی کیش ویلیو

بنیادی پلان کے کنٹریبیوشن سے مختص کردہ یونٹس × بِڈ پرائس

مجموعی کیش ویلیو

بنیادی پلان کے کنٹریبیوشن اور فنڈ ایکسیلیریشن کنٹریبیوشن سے مختص تمام یونٹس × بِڈ پرائس

ڈیتھ بینیفٹ

اگر تکافل رکنیت کی مدت کے دوران خدانخواستہ شریکِ تکافل کا انتقال ہوجائے تو قابلِ ادائیگی تکافل رکنیت بینیفٹ درج ذیل پر مشتمل ہوگا:

سم کورڈ

جمع، بنیادی کیش ویلیو

جمع، بعد میں جمع کروائے گئے فنڈ ایکسیلیریشن کنٹریبیوشن کے ذریعے حاصل ہونے والی کیش ویلیو

میچورٹی بینیفٹ

تکافل رکنیت کی مدت مکمل ہونے پر، تکافل رکنیت کے تحت جمع ہونے والی مجموعی کیش ویلیو ادا کردی جائے گی۔

یونٹ ایلوکیشن

رکنیت کا سال	ویریئنٹ اے	ویریئنٹ بی
سال 1	45 فیصد	45 فیصد
سال 2	75 فیصد	75 فیصد
سال 3	90 فیصد	90 فیصد
سال 4	100 فیصد	100 فیصد
سال 5	105 فیصد	105 فیصد
سال 6 اور اس کے بعد	—	110 فیصد

بعدازاں اضافی اختیاری کنٹریبیوشنز کا ۱۰۰ فیصد مختص کیا جائے گا۔

سم کورڈ

سم کورڈ کا تعین شریکِ تکافل کی شمولیت کے وقت عمر کے مطابق مقرر کردہ "کور ملٹی پل" کو بنیادی پلان کنٹریبیوشن سے ضرب دے کر کیا جاتا ہے۔

عمر	کور ملٹی پل
18 - 35	5 - 35
36 - 40	5 - 25
41 - 49	5 - 15
50 - 60	5 - 10
61 - 65	5

جب ضرورت ہو، مکمل سہولت

زندگی بدلتی رہتی ہے، اسی لیے آپ کا مالی منصوبہ بھی آپ کی ضروریات کے مطابق تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

جزوی دستبرداری

تکافل رکنیت کی شرائط کے مطابق، ضرورت کے وقت اپنی جمع شدہ سرمایہ کاری کا کچھ حصہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مکمل دستبرداری

گر آپ کی مالی ضروریات تبدیل ہوجائیں تو یہ پلان تکافل رکنیت سے مکمل طور پر دستبردار ہونے کی سہولت بھی فراہم کرتا ہے۔

(متعلقہ شرائط وضوابط اور چارجز لاگو ہوں گے۔)

نان فورفیچر آپشنز

دو اختیارات دستیاب ہیں:

- پیڈ اپ: رکنیت کو پیڈ اپ میں تبدیل کرنے کے بعد مزید کنٹری بیوشن ادا نہیں کرنا ہوگی۔ 2,400 روپے سالانہ انتظامی اخراجات یونٹس کی سالانہ کٹوتی کی صورت میں وصول کیے جائیں گے۔
- اے این ایف

چارجز

شرح/ پاکستانی روپے	چارجز
2,400 روپے۔ ایڈمنسٹریشن انڈیکسیشن چارج میں ہر سال 8 فیصد اضافہ کیا جائے گا۔	ایڈمنسٹریشن چارج
نیٹ بیسک پلان کنٹریبیوشن اور ایف اے سی کی ادائیگی کا 5 فیصد	بڈ/آفر اسپریڈ
فنڈ ویلیو کا 0.125 فیصد ماہانہ	سرمایہ کاری کے انتظامی چارجز
زندگی کے تحفظ کے خطرے کے لیے عمر کے مطابق ہر سال مورٹیلٹی چارج لاگو ہوگا، جو سم ایٹ رسک پر منحصر ہوگا۔ تاہم، جس سال کیش ویلیو، سم کورڈ سے زیادہ ہو، اس سال کوئی مورٹیلٹی چارج لاگو نہیں ہوگا۔	مورٹیلٹی چارجز
پہلے سال کی کنٹریبیوشن کے مختص حصے کے 50 فیصد کے برابر اضافی وکالۃ الاستثمار فیس تکافل رکنیت کی کل کیش ویلیو سے منہا کی جائے گی۔	دستبرداری چارج
تبرع (تکافل ڈونیشن) کا 50 فیصد۔	وکالہ چارج

اہم اعلامیہ

- یہ بروشر ای حمایہ تکافل ایکسلریٹڈ سیونگز پلان کا عمومی تعارف پیش کرتا ہے۔
- معاہدہ کس طرح کام کرتا ہے، اس کی مکمل تفصیلات تکافل رکنیت کی شرائط وضوابط میں درج ہیں۔
- فنڈ کی مالیت میں اضافہ یا کمی فنڈ کی حقیقی کارکردگی پر منحصر ہوگی۔
- براہِ کرم نوٹ فرمائیں کہ یونٹ سے منسلک زندگی بیمہ منصوبے سرمایہ کاری کے خطرات سے مشروط ہیں، اور منتخب کردہ فنڈ سے متعلق سرمایہ کاری کا تمام خطرہ شریکِ تکافل برداشت کرے گا۔
- فوائد کی ذاتی نوعیت کی مثال حاصل کرنے کے لیے براہِ کرم ہمارے مرکزی دفتر یا اپنے مالی مشیر سے رابطہ کریں۔

HEMAYAH
EFU FAMILY TAKAFUL

بسم اللہ الرحمن الرحیم

شرعیہ کمپلائینس سرٹیفکیٹ

ای ایف یو لائف ایشورنس لمیٹڈ - ونڈو تکافل آپریشنز

ای ایف یو لائف اشورنس لمیٹڈ۔ونڈو تکافل آپریشنز کے شرعی مشیر ہونے کی حیثیت سے میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے ای ایف یو حمایہ تکافل ایکسلیریٹڈ سیونگز پلان کا جائزہ لیا ہے، جو کہ سیلز فورسز کے توصل سے تقسیم کیا جارہا ہے۔یہ تکافل پلان وقف اور وکالت کے اصولوں پر مبنی ہے۔

نیز میں نے اس مذکورہ اسکیم کے دستاویزی کاغذات اور متعلقہ دیگر امور بشمول سرمایہ کاری وغیرہ کا بغور مطالعہ کیا ہے اور بحمد اللہ میں نے ان تمام امور کو شریعت کے مطابق پایا ہے۔لہذا میری رائے میں ای ایف یو لائف اشورنس لمیٹڈ۔ونڈو تکافل آپریشنز کی مذکورہ اسکیم کی رکنیت حاصل کرنا اور اس سے فوائد حاصل کرنا شرعا جائز ہے۔واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

تاریخ:۷ اگست،۲۰۲۶

مفتی محمد ابراہیم عیسی

شرعی مشیر



ای ایف یو لائف ایشورنس لمیٹڈ

ای ایف یو ہاؤس، پلاٹ نمبر 112، 8th اسٹریٹ، فیز ون، ڈی ایچ اے، کراچی، پاکستان۔
فیکس: 3453-7519 (021) ای میل: csd@efulife.com

رجسٹرڈ آفس: الملیک سینٹر W-70، ایف-7/جی-7 جناح ایونیو،
(بلو ایریا) اسلام آباد، فون: 051-2820989